



ویمن امپائر عافیہ امین کی جستجو

لاہور، 2 ستمبر 2019ء:

کرکٹ کی دلدادہ خواتین امپائرنگ کے شعبے میں قسمت آزما رہی ہیں۔ 37 سالہ عافیہ امین کا شمار بھی ان 9 خواتین میں ہوتا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے امپائرنگ پینل میں شامل ہیں۔ عافیہ امین کو کرکٹ میں دلچسپی اسکول کے دوران پیدا ہوئی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی عافیہ امین نے اسکول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کی تاہم خاندانی رکاوٹوں کے باعث وہ اپنے شوق کی تکمیل میں ناکام رہیں۔ عافیہ امین کا ماننا ہے کہ خواتین کے شوق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشرتی حالات ہوتے ہیں۔

وقت گزر گیا مگر شوق قائم رہا۔ عافیہ امین کی شادی پی سی بی امپائرنگ پینل میں شامل عدنان رشید سے ہو گئی۔ شوہر کو خواتین کرکٹ ٹیم کے میچ سپروائز کرتا دیکھا تو عافیہ امین نے ویمن امپائر بننے کا عزم کر لیا۔ اس بار معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے عافیہ امین کو اپنے شوہر کا سہارا تھا۔ 2006 میں عافیہ نے پی سی بی ویمن ونگ کی جانب سے پہلا میچ سپروائز کیا۔ وہ 13 سالوں میں قومی خواتین کرکٹ کے 150 سے زائد میچ سپروائز کروا چکی ہیں۔ عافیہ امین کا کہنا ہے کہ 2005 میں میرے شوہر نے بتایا کہ پاکستان میں ویمن امپائرز نہ ہونے کے باعث مینز امپائر کو ہی ویمن میچز سپروائز کرنے پڑتے ہیں۔ اسی دن اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ سال ویمن میچز میں سپروائز کروں گی۔

ملک میں خواتین کرکٹ کے فروغ سے ویمن امپائرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عافیہ امین کا کہنا ہے کہ شوق کے باوجود میرے خاندان کی کوئی خاتون اسپورٹس میں شرکت نہیں کر سکی۔ کھیل کو اپنا پروفیشن بنانے والی اپنے خاندان کی میں واحد خاتون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں خواتین کو تعلیم کے زیادہ مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ ان حالات میں اسپورٹس کے میدان میں قسمت آزمائی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ عافیہ امین ویمن امپائرنگ کے اپنے اس سفر کا تمام تر کریڈیٹ اپنے شوہر، عدنان رشید، کو دیتی ہیں۔ اس موقع پر 47 سالہ عدنان رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ خواتین امپائرز کی کارکردگی میں نکھار

لانے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ میچز فراہم کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی عافیہ کھیل کے قوانین سے آگاہی کی جستجو میں رہتی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے میچ پر گرفت اور دباؤ برداشت کرنے سے متعلق مشورے طلب کرتی رہتی ہیں۔

عافیہ کا کہنا ہے کہ امپائرنگ ایک مشکل شعبہ ہے۔ امید ہے مستقبل میں خواتین کی اکثریت اس شعبے سے وابستہ ہو جائے گی۔ اب بھی کئی خواتین کا گھروں سے نکلنا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی خواتین کا کھیل کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے مگر انہیں مزید حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امید ہے مجھے دیکھ کر میری بہنیں، بیٹیاں اور معاشرے کی دیگر خواتین امپائرنگ کے شعبے میں قسمت آزمائیں گی۔

عافیہ امین بطور ویمن امپائر انڈر 16 مینز کرکٹ میچز بھی سپروائز کر چکی ہیں۔ وہ علیم ڈار کی طرح امپائرنگ کے شعبے میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ عافیہ امین آئی سی سی ویمن ورلڈکپ میں میچز سپروائز کرنے والی پہلی پاکستانی ویمن امپائر بننا چاہتی ہیں۔ بطور میچ آفیشل زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنا عافیہ امین کا عزم ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4